


ہاتھ دھونے کا درست طریقہ



رفع حاجت کے لئے صاف لیٹرین کا استعمال



اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں




رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد
لیٹرین کو بھی اچھی طرح صاف کریں



ہمیشہ لیٹرین کا استعمال یقینی بنائیں



لیٹرین میں پینسلین، کاغذ، بوتلیں یا دیگر اشیاء مت پھینکیں



لیٹرین استعمال کرنے کے بعد اس کو
دوسروں کیلئے قابل استعمال چھوڑیں اور نلکا بند کر دیں



صفائی کا خیال کارکردگی بے مثال

سکول



ہمارا ایک ہی اصول
صاف ستھرے ہم اور
ہمارا سکول


سکول



سکولوں میں واش کلب کے قیام کا مقصد سکول کی سطح پر ایک ایسا طریقہ اپنانا ہے جس کے ذریعے طلبہ میں صحت و صفائی کے رویوں کی تبدیلی کو فروغ حاصل ہو سکے اور وہ اپنی صحت اور ماحول کو بہتر بنا سکیں۔



گُکروں کی وجوہات لاپرواہی کی عادات



گُکروں (ٹریکوما) اور دیگر وبائی امراض سے تحفظ کے لئے ہمیشہ صابن سے ہاتھ منہ دھوئیں، صاف پانی اور لیٹرین کا استعمال کریں۔



لیٹرین کے استعمال کے بعد
صابن سے ہاتھ دھونے کی عادت
آنکھوں کی حفاظت

لیٹرین





صنائی زلف ایمان ہے



ماحول صاف آنکھیں محفوظ



یاد رکھنے کی باتیں



صابن سے ہاتھ دھوئیں



منہ دھوئیں اور صاف رہیں



صاف لیٹرین کا استعمال کریں



صاف پانی کا استعمال کریں



سکول میں ٹھوس اور مائع کوڑے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں





صاف ستھرا جو رہتا ہے وہ بچہ اچھا ہوتا ہے



✓ صابن سے
منہ دھونا
اور صاف
رکھنا



✗ منہ صاف
نہ رکھنا



✓ ہاتھ دھونا
صابن سے



✗ ہاتھ صابن
سے نہ دھونا



✓ ہمیشہ
لیٹرین کا
استعمال کرنا



✗ کھلی جگہ
پر پاخانہ کرنا



✓ کچرے کو
محفوظ طریقے
سے ٹھکانے
لگانا



✗ کچرے کو
محفوظ طریقے
سے ٹھکانے
نہ لگانا



ہم ہیں

صفائی کے چیمپئن

میں ہوں
رانی



میں ہوں
راجو



ہم ہیں صفائی کے چیمپئن کیونکہ ہم اپنی اور دوسروں کی
صحت و صفائی اور ماحول کا بھرپور خیال رکھتے ہیں۔



آنکھوں کا باقاعدگی سے معائنہ ضروری ہے!

